

**COMMUNITY BASED INVENTORYING FORM  
FOR THE MAPPING OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE (ICH)**

کمیونٹی کی بنیاد پر غیر مادی وراثتی اثاثہ جات کا معلوماتی فارم

Form ID (For official use only) / (صرف دفتری استعمال کیلئے) فارم آئی ڈی	<u>16-KP-CH-CH-AY-BM-0016</u>	Date of compiling inventory / فہرست کو مرتب کرنے کی تاریخ	<u>22-September-2016</u>
--	-------------------------------	--	--------------------------

Geographical Location / جغرافیائی حدود اربع	
Longitude / عرض بلد : N 71°42'26.3"	Latitude / طول بلد : E 35°38'48.4"
Province / صوبہ : Khyber Pakhtunkhwa	
District / ضلع : Chitral	Tehsil / تحصیل : Chitral
Union Council / یونین کونسل : Ayun	Village / گاؤں : Broun, Bumburet

Name of Compiler / مرتب کنندہ	Organizational Affiliation / تنظیمی تعلق	Contact No. / رابطہ نمبر	E-mail / ای میل
Meeza Ubaid	<input checked="" type="checkbox"/> NGO <input type="checkbox"/> Local Community <input type="checkbox"/> Any Other : _____	+92-321-5124436	meexa_rishi@hotmail.com

**1. Identification of ICH Element / غیر مادی اثاثے کی شناخت**

1.1 Name of the Element Used by the Community concerned (in local language)

مقامی زبان میں لوگ اس انفرادی اثاثے کو کیا نام دیتے ہیں؟

Rhash Girik

1.1.1 Brief descriptive title of the element (in English or Urdu) / اثاثے کے نام کی اردو یا انگریزی میں مختصر تفصیل

Compiling, Measuring and Distribution of Crops

1.2 Domain of the Element / اثاثہ کا دائرہ کار	
Domain	Number 1-9 (prioritize on the basis of relevance of element to domain (s))
<input type="checkbox"/> Oral Traditions and Expression / زبانی روایات اور اظہارات	
<input type="checkbox"/> Performing Arts / فنون لطیفہ	
<input checked="" type="checkbox"/> Social Practices, Rituals and Festive Events / سماجی روایات، رسومات اور میلہ	1
<input type="checkbox"/> Knowledge and Practices concerning Nature and the Universe/ قدرت اور کائنات سے وابستہ علم اور روایات	
<input checked="" type="checkbox"/> Traditional Craftsmanship / روایتی ہنرمندی	2
<input type="checkbox"/> Traditional Cuisine / روایتی کھانے	
<input type="checkbox"/> Traditional Games and Sports / روایتی کھیل	
<input type="checkbox"/> Agricultural Practices / زرعی طریقے	
<input type="checkbox"/> Traditional Medicine / روایتی ادویات	
<input type="checkbox"/> Other : _____	
1.3 Community(ies) , groups, and individuals concerned / اس اثاثہ سے وابستہ مقامی آبادی، گروہ، اور افراد	
The entire Kalasha community is involved in this practice	
1.4 Physical location(s), distribution, and frequency of enactment of the element	اس اثاثے کا منبج کونسا علاقہ ہے؟ اور اس کا رواج کتنا ہے؟ لوگوں میں کتنی مقبولت رکھتا ہے؟
It is practiced in the Kalasha Valleys of Bumburet, Rumbur, Birir, Jingiret and Urtsun The people practice it twice a year in summer and autumn. It is a post-harvest activity.	

1.5 Short description of the element (preferably no more than 200 words)

اثاثے کی مختصراً تفصیل (زیادہ سے زیادہ ۲۰۰ الفاظ)

Rhash Giriik is practiced twice a year after the harvest of summer and autumn. In this the grain is compiled, calculated and measured. In the process a small basket (bat'iinyi) that can hold 2.5 kg grain is used to fill a larger basket (prustheny) that can hold up to 8 bat'iinyi approximately 20kg.

Bigger basket is made according to the smaller one. The bigger one can be equal to five, six or eight grain fills of the smaller one. For modern day measurements 20 grain fills of the smaller one equal to 50 kg or 4-grain fills of the big ones equal 50kg.

One Batee = 2.5kgs, 20batee = 50kgs and 40 batees=100 kgs called one wa'aw in Kalash language.

Measuring a grain with these baskets is called Rizan karik. It is done by putting the grain in these baskets until it is heaped up and until no more grain stays on the heap. This is a practice done by the male members. Earlier it was practiced in the cattle houses, but now it is also practiced on the rooftops. A small proportion of crop is taken out in a clay pot for offering to Balumain in Indrein.

When the first meal is prepared from the crop, a feast is given to the neighbours and family members. This is called ishperigar. The units of bat'iinyi can be altered also. These are made to suit the need of the user. The bat'iinyi can also be 3 or 5. A small bat'iinyi can hold up to 2.5 kg but also another used that can be used to hold up to 5 kg.

**2. Transmission of the ICH Element(personnel and language(s) involved) / غیر مادی اثاثے کی منتقلی**

2.1 Personnel/individuals (if applicable) directly involved in the practice and/or enactment of the element (Name, Age, Gender, Professional category)

اس اثاثے سے براہ راست منسلک افراد یا شخصیات ( نام، عمر، جنس، شعبہ)

Male members of the kalasha community are involved in Rhash Giriik in the three valleys of Kalash

2.2 Other people in the community less directly involved, but who contribute to the practice of the element or facilitate its practice or transmission

ایسے مقامی لوگ جو اس اثاثے کی ترقی اور اسے عوامی بنانے میں شامل ہوتے ہیں

Women are sometimes involved in the collection of the corn crops from the fields

2.3 Language (s) and dialect (s) involved (if applicable)

اثاثے کی زبان اور لہجہ

Kalashamondr

2.4 Language (s) and dialect (s) spoken by the community concerned

مقامی آبادی کی زبان اور لہجہ

Kalashamondr

### 3. State of ICH Element / غیر مادی اثاثے کی حالت

3.1 Threats (if any) to the continued transmission of the element within the relevant community (ies)

آپ کے پیش نظر کوئی ایسی بات ہے جس سے اثاثے کے تسلسل کو کوئی خطرہ ہو؟

These days alternative measuring standards are in place that are endangering this method of measurement.

3.2 Threats to any tangible elements and resources (if any) associated with the element

اس اثاثے سے جڑے مادی اثاثے جن کو خطرہ ہو۔

The baskets used for measuring are getting endangered now. Craftsmen who made the baskets are also few.

3.3 Safeguarding or other measures in place (if any) to address any of these threats and encourage future enactment and transmission of the element

کیا اوپر بیان کیے گئے خطرات کے تدارک کیلئے کوئی کوششیں اختیار کی گئیں؟

There are no safeguarding measures in place at the moment.

### 3.4 Viability of the element

3.4.1 Does the element require urgent safeguarding

کیا اس اثاثے کو فوری محفوظ کرنے کی ضرورت ہے؟

Yes the element requires urgent safeguarding.

3.4.2 Is the element a viable representative of the ICH of the community(ies)

کیا یہ اثاثہ قابل عمل ہے؟ اور کیا یہ مقامی آبادی کے غیر مادی وراثتی اثاثہ جات کی نمائندگی کرتا ہے؟

Rhash Giriik is a very essential part of the Kalasha community and it represents the ICH of the Kalash people.

3.4.3 Any safeguarding/innovation measures taken for enhancing viability

کیا اس اثاثہ کی بڑھوتری کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے کوئی حفاظتی اقدامات کئیے گئے ہیں؟

None so for

4. References concerning the ICH element (if any) / اثاثہ کے متعلق حوالہ جات				
4.1 Literature (if any) (published articles, books, newspapers etc.)		ادبی حوالے (شائع مضمون، کتابیں، اخبارات وغیرہ)		
Title of book, Article, Newspaper etc./ عنوان	Name of Author(s) / مصنف	Publication Year / اشاعت کا سال	Page Number(s) / صفحہ نمبر /	Publisher / ناشر
Kalasha Solistice				
4.2 Audio-visual materials, recordings, or any objects etc., in archives, museums, and private collections (if any)		اثاثے کی صوتی، بصری اور ریکارڈنگ (چاہے کسی عجائب گھر میں یا کسی کی ذاتی ملکیت ہوں)		
Title of audio-visual material or object / عنوان	Location / جگہ	Collected / Recorded by / مواد اکٹھا یا ریکارڈ کرنے والے کے نام /	Year of collection and/or publication / اشاعت یا اشاعت کا سال	
	Private collections of people (Kalasha Community)			
	There are collections in the Kalashadur Museum in Bumburet			

## 5. Data restrictions and Permissions / مواد پر پابندیاں

5.1 Restrictions if any to the use of (or access to) information e.g., is there any sensitive information you would not like to be shared

ایسی حساس معلومات جن کو بتایا نہ جاسکے

None

5.2 Resource person(s) detail

معلومات دینے والے کی تفصیل

Name/ نام	Affiliation / وابستگی	Location / رہائش	Contact No. / رابطہ نمبر
Imran Kabir	District Councillor, minority member, Chitral	Bourn, Bumburet	0092-340-9862933



**6. Attachments related to ICH element**

- Detailed Description / مفصل تفصیل
- Photograph(s) – Maximum 15, Minimum 10/ (تصاویر (زیادہ سے زیادہ ۱۵ اور کم سے کم ۱۰)
- Audio (if possible)/ صوتی (اگر ممکن ہو)
- Video (if possible)/ بصری (اگر ممکن ہو)
- Other / کوئی اور \_\_\_\_\_

**7. Permission to Compile Data / فہرست کو مرتب کرنے کا اجازت نامہ**

7.1 Name(s) of the Person(s) of the concerned community who participated in filling in the form

علاقے کے اس شخص یا اشخاص کا نام جن کی شمولیت سے یہ فارم بھرا گیا۔

Imran kabir

Meeza Ubaid

7.2 Date (s) and place(s) of information generated / معلومات حاصل کرنے کی تاریخ اور جگہ

22<sup>nd</sup> September, 2016.  
Batrik Village, Bumburet Valley

7.3 Proof of consent of the community(ies) concerned for inventorying the element; and the information to be provided in the inventory

اثاثے اور معلومات کو ریکارڈ کرنے کیلئے مقامی آبادی کا

اجازت نامہ

I Imran Kabir agree as a representative of the Kalasha community to the inventorying of information gathered in reference to it/them being placed on the National and/or Provincial ICH Database. This inventorying form has been filled with the collaboration of local community.

میں عمران کبیر اس علاقہ کی مقامی آبادی کلاشہ کا حصہ اور ان کا / کی نمائندہ ہوتے ہوئے اس بات سے اتفاق کرتا / کرتی ہوں کہ اکٹھی کی گئی معلومات / مواد کو قومی یا صوبائی یا دونوں اثاثہ جات کی فہرستوں میں محفوظ کر لیا جائے۔ یہ فارم یہاں کی مقامی آبادی کے لوگوں کی باہمی مشاورت سے مبرا گیا ہے

دستخط / Signature:

Signatures of additional community members (if any) / علاقہ کے مزید نمائندوں کے دستخط (اگر کوئی ہیں)

Name (نام)	Signature (دستخط)

**FOR OFFICIAL USE ONLY**

**8. Date of entering the information in the National, Provincial, or any other inventory**

معلومات قومی، صوبائی اثاثوں میں شامل کرنے کی تاریخ

	<b>Inventory</b>	<b>Date</b>	<b>Entry ID</b>
<input type="checkbox"/>	Provincial / صوبائی		
<input type="checkbox"/>	National / قومی		
<input type="checkbox"/>	Any Other (Specify Name):- / کوئی اور		